



سوال

(83) کان کے بچنے کی دعا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کان کے بچنے کی دعا کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس میں سنت مطہرہ وارد ہے؟ - (آپ کا بھائی: علی گل)۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ابن السنی نے ص: (87) رقم: (166) میں عبداللہ بن عبید اللہ کے دادا سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی کا کان بچے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود پڑھے اور یوں کہے، ”ذکر اللہ بخیر من ذکرنی“

(جس نے مجھے یاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر فرمائے)۔ امام نووی نے اسے الاذکار ص: (271) میں نکالا اس کی سند میں محمد بن عبداللہ ہے اور اس کے مناکیر میں سے ہے جیسے کہ میزان (4 157) میں ہے ”یہ اس مناکیر میں سے ہے“ اور روایت کیا اسے طبرانی، بزار، خرائطی اور ابن عدی نے اور سند اس کی ضعیف ہے لیکن چیشی نے مجمع الزوائد (10 138) میں طبرانی کی سند کو حسن کہا ہے، اور جلاء الافحام ص: (240) کی تطبیق میں ہے کہ سخاوی نے کہا ہے، روایت کیا اسے طبرانی ابن عدی، ابن السنی، خرائطی، ابن عاصم، ابو موسیٰ الدانسی اور ابن شحوال نے اور اس کی سند ضعیف ہے اور نکالا ہے اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور تعجب کی بات ہے کیونکہ اس کی سند غریب ہے اور اس کے ثبوت میں نظر ہے جیسے القول البدیع (224) میں ہے واللہ اعلم۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 182



محدث فتویٰ